



ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کی کوریج کے دوران میڈیا کے لیے اہم معلومات

- پی سی بی کی پالیسی برائے تحفظ حقوق کے تحت نان رائٹس ہولڈنگ ٹی وی نیوز چینلز کو میچ ڈیز پر ویڈیو میں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، اس دوران پی سی بی ایڈیٹوریل مقاصد کے لیے پوسٹ میچ میڈیا کانفرنس کی آن ایڈیٹ ویڈیو فراہم کرے گا
- ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے میڈیا کے شرائط و ضوابط [یہاں](#) دستیاب ہیں
- تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں

لاہور، 14 فروری 2020ء:

ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ فائو 20 فروری سے 22 مارچ تک پاکستان کے چار مختلف مقامات کراچی، لاہور، ملتان اور راولپنڈی میں جاری رہے گی۔

ایونٹ کی کوریج کے دوران میڈیا نمائندگان کے لیے تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں:

ایونٹ کا نام: ایونٹ کا مکمل نام ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 2020 ہے۔ تمام میڈیا ہاوسز سے درخواست ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل سے متعلق کسی بھی خبر میں ایونٹ کا مکمل ٹائٹل درج کریں۔

ویب سائٹ اور بیش ٹیگ: ایونٹ کی آفیشل ویب سائٹ <https://www.psl-t20.com/> ہے جبکہ

ایونٹ کے درست بیش ٹیگز #HBLPSLV #Tayyarhain #HBLPSL ہیں۔

میچ رپورٹس: ٹورنامنٹ کے آغاز اور ایونٹ کے دوران ، پاکستان کرکٹ بورڈ اردو اور انگریزی زبان میں ایونٹ سے متعلق فیچرز ، انٹرویوز اور میچ رپورٹس شائع کرے گا جو ایڈیٹوریل مقاصد کے لیے استعمال کی اجازت ہوگی۔

تصاویر کی فراہمی: ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ 2020 کی افتتاحی تقریب اور میچوں کے دوران ایکشن تصاویر [یہاں](#) سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ برائے مہربانی تصویر شائع کرتے وقت پی سی بی کو کریڈٹ ضرور کریں۔

میڈیا سٹل سروس: ماضی کی طرح پی سی بی اس مرتبہ بھی کراچی اور ملتان میں میڈیا کے لیے خصوصی سٹل سروس کا اہتمام کرے گا جس کی تفصیلات بعد میں جاری کی جائیں گی۔

میڈیا ایریاز میں سہولیات: پی سی بی میڈیا نمائندگان کو کام کرنے کے لیے بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کرے گا۔ پریس باکس میں صحافیوں کے لیے نشستیں، پاور پوائنٹس، وائی فائی، ری پلیز کے لیے ٹی وی اسکرینز، چائے/کافی اور بسکٹ (میچ کے اوقار کار کے مطابق) مسلسل دستیاب ہوں گے۔ فوٹوگرافرز کے لیے پی سی بی نشستیں، چھتیریاں (صرف میچ ڈیز کے لیے)، پاور پوائنٹس، وائی فائی، پانی، چائے/کافی ، لنچ/ڈنر باکس اور آئی ٹی کی اسپورٹ فراہم کرے گا۔

میڈیا ایکریڈیشن: ایچ بی ایل پی ایس ایل 2020 کے لیے میڈیا ایکریڈیشن کا عمل 14 سے 26 جنوری 2020 تک جاری رہا۔ اس حوالے سے پی سی بی مزید کسی نئی درخواست کو قبول نہیں کر رہا۔ ایکریڈیشن پاسز کے حصول سے متعلق تفصیلات جلد جاری کر دی جائیں گی۔

میچ ڈیز پر آؤٹ اسٹیشن رپورٹرز: [میڈیا شرائط و ضوابط](#) کے آرٹیکل 16 کے مطابق میڈیا ورکنگ ایریاز میں محدود نشستوں اور چاروں شہروں میں تمام میڈیا ہاؤسز کے دفاتر کے باعث ہر وینیو پر کوریج کے لیے ایکریڈیشن دیتے وقت پی سی بی مقامی صحافی کو ترجیح دے گا۔

میچ ڈے فلمنگ: [میڈیا شرائط و ضوابط](#) کے آرٹیکل 8 کے مطابق میڈیا نان رائٹس ہولڈنگ ٹی وی نیوز چینلز کامیج ڈیز پروینیو میں ویڈیو بنانا سختی سے منع ہے۔ اگر کسی نان رائٹس ہولڈنگ نیوز چینلز کی جانب سے وینیو یا تماشائیوں کے اسٹینڈز سے بنائی گئی ویڈیو نشر کی جاتی ہے تو مذکورہ ادارہ کا ایکریڈیشن منسوخ کر دیا جائے گا۔

پوسٹ میچ پریس کانفرنس: پی سی بی تمام پوسٹ میچ میڈیا کانفرنسز کی براڈ کاسٹ

کوالٹی سے بنی آن ایڈیٹ ویڈیوز 15 منٹ میں بذریعہ وی ٹرانسفر لنک فراہم کرے گا۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایڈیٹوریل مقاصد کے لیے استعمال کی جاسکتی ہے۔ نان رائٹس ہولڈنگ نیوز چینلز پوسٹ میچ پریس کانفرنس کی لائیو اسٹریم بھی [ایچ بی ایل پی ایس ایل](#) کے [افیشل یو ٹیوب چینل](#) سے استعمال کر سکتے ہیں۔

میچ کی جھلکیاں: پی سی بی، معروف ویڈیو نیوز ایجنسی، ایس این ٹی وی کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ کرچکا ہے، جس کے تحت ایڈیٹوریل مقاصد کے لیے میچ کی جھلکیاں فراہم کی جائیں گی۔ ٹی وی نیوز چینلز مزید تفصیلات کے لیے ایس این ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔

میچ ڈیز پر کیمرہ مینز: کراچی، لاہور اور راولپنڈی/اسلام آباد میں موجود سینئر کرکٹ رپورٹرز کی حمایت اور تبادلہ خیال کے بعد [میڈیا شرائط و ضوابط](#) کے آرٹیکل 8(اے)(ون) کے مطابق، جس پر تمام درخواست دہندگان نے ایگریڈیشن کے لیے درخواست دیتے وقت اتفاق کیا تھا اور جو بین الاقوامی کھیلوں کے ایونٹس کے مقررہ معیار کے عین مطابق ہے، نان رائٹس ہولڈنگ ٹی وی نیوز چینلز کیمرہ مینز کو میچ ڈیز پر میڈیا ورکنگ ایریاز میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش کے خلاف محدود اور طویل طرز کی کرکٹ کے میچز کے دوران لاہور اور راولپنڈی میں اسی پالیسی پر عمل کیا گیا ہے۔

نان میچ ڈیز فلمنگ: [میڈیا شرائط و ضوابط](#) کے آرٹیکل 8(بی) کے مطابق نان رائٹس ہولڈنگ ٹی وی نیوز چینلز کو نان میچ ڈیز پر وینیو سے ویڈیو بنانے کی اجازت ہوگی۔ اس میں ٹریننگ سیشنز، پری میچ میڈیا کانفرنسز، انٹرویوز اور پی ٹی سی شامل ہیں۔

سوشل میڈیا پری پی سی بی ڈیجٹل کے مواد کا استعمال: [میڈیا شرائط و ضوابط](#) کے آرٹیکل 12 کے مطابق ایونٹ سے قبل اور دوران پی سی بی کی جانب سے تیار کردہ مواد پی سی بی کی ملکیت ہے لیکن اسے محض ایڈیٹوریل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ پی سی بی کی پالیسی برائے تحفظ حقوق کے تحت مندرجہ بالا اصول کی خلاف ورزی کرنے والے میڈیا کو اسٹرائیک بھیجی جائے گی جو اکاؤنٹ کی معطلی کا سبب بنے گی۔

ایگریڈیشن کا استعمال: کسی بھی ایگریڈیٹڈ میڈیا نمائندہ کی جانب سے غیر پیشہ وارانہ رویہ یا طرز عمل پر پی سی بی مذکورہ نمائندہ کا ایگریڈیشن منسوخ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، مزید تفصیلات کے لیے [میڈیا شرائط و ضوابط](#) کے آرٹیکل 5 کو پڑھیں۔

ٹیم میڈیا منیجرز: ایچ بی ایل پی ایس ایل میں شامل تمام ٹیموں اور کھلاڑیوں سے متعلق سوالات کے لیے مندرجہ ذیل میڈیا منیجرز سے رابطہ کریں:

- اسلام آباد یونائیٹڈ؛ زخرف خان، 03215347168
- کراچی کنگز؛ فیصل مرزا، 03058110110
- لاہور قلندرز؛ ثمین رانا، 0300435555
- ملتان سلطانز؛ فرحان نثار، 03214180714
- پشاور زلمی؛ عبدالغفار، 03212953098
- کوئٹہ گلیڈی ایٹرز؛ نبیل ہاشمی، 03453469946

پی سی بی وینیو میڈیا منیجر:

- کراچی؛ عماد حمید، 03018452417
- لاہور؛ رضا راشد، 03018440280
- ملتان؛ احسن افتخار ناگی، 03040557586
- راولپنڈی؛ شکیل خان، 03018440284

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
 Editor – Urdu Content
 Media and Communications
 E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
 M: +92 (0) 345 474 3486
 W: www.pcb.com.pk

Partners



www.psl-t20.com ●
 @thePSLT20 ●
 @thePSL ●
 PakistanSuperLeague ●
 @thePSL ●

PCB Headquarters
 Gaddafi Stadium,
 Ferozepur Road, Lahore
 Pakistan, PO Box 54000
 T: +92 42 3571 7231-4